



سوال

(133) چار شانخوں میں بیٹھنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مرد اپنی بیوی کے چار شانخوں میں بیٹھتا ہے، تختہ تختے سے مل جاتا ہے، مگر آگے نہیں کرتا اور شرمگاہ سے باہر ہی اسے انزال ہو جاتا ہے تو کیا ان دونوں پر غسل ہوگا؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس صورت میں مرد پر غسل ہے کیونکہ اسے انزال ہوا ہے مگر عورت پر نہیں ہے۔ کیونکہ غسل واجب ہونے کے لیے دخول شرط ہے۔ اور جیسے کہ معلوم ہے کہ تختے کا مقام حشفہ سے اوپر پیشاب کی نالی سے متصل ہے۔ تو جس طرح سوال میں بیٹھا گیا ہے، عورت کے تختے سے ملنا تبھی ثابت ہوگا جب دخول ہوگا۔ اور جماع سے وجوب غسل کے لیے حشفہ کا غائب ہونا شرط ہے جبکہ کچھ احادیث کے الفاظ میں یہ بصراحت وارد ہے، مثلاً حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

إِذَا اتَّقَى الْخِتَانَانَ، وَتَوَارَتِ الْخُفْيَةُ، فَهَذَا وَجِبَ الْغُسْلُ

”جب دونوں تختے مل جائیں اور حشفہ چھپ جائے تو غسل واجب ہوگا۔“ (سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ و سننھا، باب ما جاء فی وجوب الغسل إذا اتقى الختانان، حدیث: 611 و مسند احمد بن حنبل 178/2، حدیث: 6670۔)

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 173

محدث فتویٰ